



پنشن निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory and Development Authority
A Public awareness initiative on old-age income security

این سی پی کیوں؟

- کم لاگتی پراڈکٹ
- افراد، ملازمین اور مالکان کے لئے ٹیکس سے بری
- مارکیٹ سے منسلک دلکش منافع
- محفوظ، موزوں اور آسانی سے قابل انتقال
- تجربہ کار پنشن فنڈ کے ذریعہ پیشہ ورانہ طور پر چلن
- پی ایف آر ڈی اے ایک ایسا ریگولیٹر جسے پارلیمنٹ کے ایک قانون کے تحت قائم کیا گیا ہے

این پی ایس کیا ہے؟

یہ ایک انتہائی اہل ٹیکنالوجی سے منسلک سسٹم ہے جو آج چھوٹی بچتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ زندگی کی دوسری باری کے لئے موزوں رقم فراہم ہو سکے۔

کون شامل ہو سکتا ہے؟

اگر آپ درج ذیل میں سے کوئی بھی ساری شرائط پوری کرتے ہیں:

- بھارت کے شہری: رہائش پذیر یا غیر ملک میں رہائش
- عمر 18-60 سال کے درمیان شمولیت کی تاریخ پر
- تنخواہ دار یا خود کار اپنا کام

میں کہاں این پی ایس کھاتہ کھول سکتا ہوں؟

کسی بھی مقام پر جہاں پر پرنسپس-سروس پرووائڈر (پی او پی-ایس پی) جو پی ایف آر ڈی اے کے ذریعہ آتھورائزڈ ہو۔

این پی ایس کے متعلق مزید معلومات اور پی او پی-نزدیک ترین پی او پی
ایس پی کے متعلق مزید جانکاری کے لئے مفت ٹیلیفون

1800 110 708

یا

ایس ایم ایس

این پی ایس کو *56677

* معیاری چار جز لاگو ہوں گے

یا

www.pfrda.org.in پر رجوع کریں



ایک دن آپ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ رہے ہوں گے کیوں کہ
آپ نے ایک پودہ بہت پہلے
لگا دیا تھا

nps Save Right Retire Bright
national pension system

ایک ملین ہندوستانی جو آج پیدا ہوئے ہیں
وہ 80 سال کے بعد بھی زندہ رہیں گے



ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری

پنشن کا مروجہ نظام ہندوستان کے صرف 13 فی صدی تنخواہ یافتہ ملازمین ہی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لئے ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے لئے آپ کو مستقل بچت اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔

بچت اور باضابطہ سرمایہ کاری ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کا ایک جز، لا ینفک ہے۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ کسی شخص کی طویل زندگی میں اس کی مالی خوش حالی کا زیادہ تر انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے کتنی عقل مندی اور تسلسل کے ساتھ سرمایہ کاری کی ہے۔

ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کے لئے محنت 'نظم' قربانی 'استقلال اور صبر کی ضرورت ہے۔

این پی ایس - ایک قابل قدر ریٹائرمنٹ پلان

اغراض و مقاصد

ریٹائرمنٹ کے لئے این پی ایس میں سرمایہ کا بنیادی مقصد ہے ایک نظام کے تحت مستقل بچت اور کام کے بعد کی زندگی کے سالوں کے لئے ایک ذخیرے کی تشکیل۔

طویل ترین منصوبہ بندی کا افق

آپ کی سرمایہ کاری میں اضافہ اور نمو کو کافی وقت دینے کے لئے این پی ایس کی تشکیل کی گئی ہے۔

خطرات کا سد باب

این پی ایس کی تشکیل میں اس بات کو خاص طور سے مد نظر رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کے سالوں کے لئے بچت کرتے ہوئے عام حالات میں صرف ایک معمولی سا خطرہ لینا ہی گوارہ کریں گے۔

بازیافت کی امید

کسی بھی سرمایہ کاری کا اولین مقصد بازیافت کا حصول ہوتا ہے۔ حقیقی بازیافت کا تعین صرف طویل المیعاد بنیادوں پر ہی کیا جاسکتا ہے کیونکہ سرمایہ کاری جتنی قلیل المیعاد ہوگی اس کی بازیافت اتنی ہی غیر متوازن ہوگی۔ طویل المیعاد بنیادوں پر استوار ہونے کی وجہ سے این پی ایس اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھتی ہے۔

قریبی جائزہ

این پی ایس کے زیر انتظام - آپ کے مفاد کے ہمہ وقت تحفظ کے لئے آپ کے سرمایہ کاری کی مسلسل اور قریبی نگرانی جاری رہتی ہے۔